

تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: Lazarus
Alastair Paterson

کے مطابق: Ruth Klassen

ترجمہ کردہ: www.christian-translation.com

کی طرف سے تیار: Bible for Children
www.M1914.org

©2024 Bible for Children, Inc.

لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔



واریاہ بڑونٹھ، طاقتھور فوجن کور یہودیہس پیٹھ حملہ، خدایہ سُنڈ واریاہ لُوکھ
نیکھ واپس بیلان غلام بناؤیتھ۔ یمو یہودیو، گر نشہ دور
گزار زندگی دریاہے چبرس لرلور۔



آكہ دوه، خداين ديت حِزقى ايل لس آكہ رُويا۔

خدا سنڙ شان گيہ ظاہر زُنہ آكہ تيز گاش، يس ژورن دزونن زو زائن
هنڙ شڪلہ منڙ اُس۔ هر کانسہ اُس ژور ژور بُتھی تہ ژور ژور پڪھی۔

تمن ہري کين اوس آكہ خوب صورت نيلمكہ تختہ، گاشہ ستي

بُرتھ زُنہ تہ شعلہ وُني رازِ رامني دُوني۔ ييلہ حِزقى ايل لن يہ

وچھ، سہ پو بُتھی کني پتھر۔



خداین کر حزقی ایلس سترے کتھ۔ "بہ چھس ژ اسرائیلیکین شرن نش سوزان۔ تمن
وون مہون کلامہ، تکیاز تمی چہ بُتھی پھیئر گمتھ۔" اکھ آتہ گوو ظاہر، اکھ کاغذ
بدہ رٹتھ۔ "کھی یہ کاغذ، تہ گڑھ، اسرائیلیکس
تتہ گرس سترے کر کتھ۔" کیاہ عجیب حکمائہ
اوس! مگر حزقی ایلن کر فرما برداری، سہ
کاغذ کھپون تہ گوو۔



خدايه سُندِ رُوحن تَلُ حِزْقِي ايلَ تِه واتِه ناون سِپْطَهاه

دورِ تَمَنِ غلامِ يهودِينِ نشِ دويمسِ جگهسِ پِطْطِه درياپه

چيبرسِ سِتي، يِيتِه تَمِ روزانِ

اَس - سُه رُودِ تَتِه سِتهنِ دوپنِ يِيتِه

تَمِ بهتِه اَس، سُه گوو حيرانِ يِه


تَمِي وچِه - پَتِه بنوورِ خوداينِ

حِقي ايلَ اَكِه پِهردار - تُمِه سَنَرِ

كَاْمِي اَسِ بَدِكارِ لُوْكِه خِبردارِ

كِرَنِ خِدايسِ مَه كَرِپو نافرمانِي -






خودائے سُنَد کلام لُوکَن واضح کرنہ


خاطرِ کرِ حِزقی ایلن واریاہ عجیب چیز۔ تمی بننہوؤ یروشلمک اکھ نقشہ اَکس
کترِ ٹالہ ہنزِ خُنجہ پِٹھ خُش دیتہ۔ شاید لُوکھ اُس تُمس تَندِ پُھِیَوکہ پُٹھی وچہان
ییلہ سہ شکلہ بنِ ناوان اوس یتہ منزِ یروشلمس اندی اندی زبردست فوج اوس۔ سہ
اوس ہاوان زِ خودائے سُنَد پاکھ شہرِ ییلہ جلدی برباد کرِ نہ۔




اسرائیلک شمالی سلطنتن کر 390 وری یں خدایہ سنز نافرمانی، تہ یہودیہہک تم
جنوبی سلطنتن کر 40 وری یں۔ تاوئے سبہ آ یاؤ اسرائیل تباہ کرنہ تہ یہودیہس تہ آو
جلد زوال۔ خداین ووں جزقی ایلس تراؤو کهور لری ڈاف 390 وری یں،
پتہ 40 وری یں دوچھنی لری، تمن لوکن پاون یاد پنی
پتمنی وری یں ہند گوناہ۔



شاید تَمو لُو کو اوس لُو گُمت يِيه سونچن ز
حزقی ایل اوس اکھ عجیب شخص۔ تَمی کور
تہ سؤرئے يہ تَمس خداین کُرُن وون۔ اکہ دوه،
کوس تَمی پنن مس تہ زولُن اَمیک تَریمی حصہ۔
يہ اوس تَمس ہاون ز يروشلمکہ تَریم حصہ لُو کہ
مَرین بیمار تہ دراگہ ستی يیلہ يیلونک فوج کر
تہ شہرس پیٹھ حملہ۔



حزقی ایلن نیو بیاکه تَریم حصہ پنی مستوک تہ ژیتُن اکہ تلوارِ ستی۔ یہ اوس تُمس
ہاون ز اکہ تَریمی حصہ لوکن ہند مَر دشمن سنزوو تلوارو ستی۔ حزقی ایلن چھکراؤ
سہ آخری تَریم حصہ یس واون نہو۔ مگر تمہ منز تُلن کینہہ مسہ وال تہ ٹیب دیتہ
تھون پنن پلون ستی چونکہ یہ اُس اکہ نشانی ز خدا بچاؤیہ
کینٹرن لوکن تہ پننس






تہ واعد
کرمیتس زمینس
پیٹھ سوزکھ واپس۔




تُمى دِلاوَر نَبين ووَن تِمَن غلام يهودين
حالات گژهن زيادِ خراب، نه كه
ٿهيك يس تِمَن ووميد اَس۔ تِمَن لُوكنَ
كهڙ حِزقِي ايلنى شرارت، مگر تُمى
تهوَو خدايه سنز كته وُننى جارى۔ اكر
دوه اوس سُه اسراييلڪين زيڻهن ستي
بهته، خداين ديت حِزقِي ايلس
اڪه رُويا۔ اته رُوياهس منز
تلُ خداين سُه مس رُتته تِه
نپون يروشلمكس عبادت
خانص منز۔




خداین هاؤی جزقی ایلس پهالن وولی چیز، ناپاکه درند، ته پوتله - یم گزهن نه زانه
ته خدا سندنس گرس منز اسن -



ثم سردار اَس خدایه سُنْدِ بجأے یمِنِ عبادت کران۔ حَزَقِی ایلِس ہاؤی خداین یتِہ زِ
تمہ سنز شان چھ وُنِی تمہ عبادت خانہ منز نہرن واجنی تہ یہ یبِیہ تباہ کرنہ۔ ییلہ رُویا
ختم گوو، حَزَقِی ایلن وون تِمن یہودین اتہ متلق۔







خداين يه وون ته دراؤ پوز - يروشلم او تباہ کرنه - وارياه لوكه گيه
ختم - ييله تمو يهوديو يه بوز يمي بيلانس منز غلام اس، تم گيه
حيران زنه ته اس خوداين پنن لوكه هميشه خاطر ترك كرمتي -




مگر خداين دڙ پٺس نپس بياڪھ خبر۔ تمى نپو
جزقى ايل اڪس وادى ڪنُ يس هوجھى مڙ اڏجھو
ستى بهريته اَس۔۔۔ انسانن ھنڙ اڏجھ۔




خداین پُرژِ حِزْقِ ایلِس، "انسانِ سُنْدِ نیچہو، کیاہِ یِمِ اُدْجِہِ بیکہِ ناهِ زِنْدِ گِزْهَتْہُ" حِزْقِ ایلِنِ دیتِ جواب، "اے خدائوندِ، ژِ چھکھِ زانان، بلکل،" ہوچھی مِژْ اُدْجِہِ بیکنِ نہِ بییہِ زِنْدِ گِزْهَتْہُ۔ تمیِ خوداوندنِ وونِ حِزْقِ ایلِس، "دیہِ کریکہِ یِمِنِ اُدْجِن، تہِ ونوکھ، اے ہوچھی مِژْ اُدْجِہو، بوزیو خدائوندِ سنز سہِ کتھ! توہی گِزْهَبو زِنْدِ"۔ ییلہِ تمِ فرمابرداری کر، حِزْقِ ایلِنِ بوزِ اکھِ کھٹی کھٹی شور۔ توہی کیاہ




يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ نَبِيَّ نَبِيْنِ حَيْرَانِكِي مَنزَ نَظَرِ دَرِّ، جَسْمِ كِي يَكْجَا اُدْجِه سَتِي رَايُوِي اُدْجِه-




پتہ، کھوتِ تِمن پیٹھ ماز۔




تہ آؤ تَمَن پیتھ مسلہ ولنہ، مگر تَمَن منز اوس نہ شاہ کینہہ۔




تْمی خداوندن وون حزقی ایلَس، "آدمه سنڊ اولادِ کریکھ دیتھ وننوکه، اے شه
ژورو واوو منز ییہ۔ تمن منز کھس تہ وس تاکہ یم رُوزن زند" ییلہ حزقی ایلن تہ
کور، یمن منز آو شه۔ تمی گیہ زند، تہ وتھ پنن کھورن پیٹھ تھود۔ سہ وادی آیہ
واریاہ فوجہ ستی برتھ۔



خدایس اَس پتاه ییلہ یروشلم ختم گزھی یم یہود بیبلونس منز چہ کرن ناومیدی
محسوس۔ تم سوز حزقی ایلنہ رُویا ذریعہ اکھ پیغام۔ خداین وؤن، "یمہ اُدجہ
چہ اسراییلک سہ ساری گر۔ بہ تراؤو توہی منز پننن روح، تہ توہی تراوہو پننس
وطنس منز"۔



خدايه سنڊ طرفه ووميد هنڙ ڪياھ بڏ خبر اُس يه! خدايه سنڊ وعدِ حِزقي ايل ني ذريعه
درايه پُزي ييله تم يهودي پته پننس وطنس منز واپس گيھ- تموزون تمى خوداوندن اُس
تم گر انيمت- خدايه سنڙ ڪته چه هميشه پوز نهران-



حزقی ایل: رویا بن ہند انسان

خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

حزقی ایل

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:

پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

